

26 جون، 2020

عزیزی اہل خانہ،

جب کہ یہ بے نظیر تعلیمی سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اسکول کی عمارتوں کے بند ہونے اور ریموٹ لرننگ کو اپنانے کے لیے میں آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کے صبر، برداشت اور استقامت کا شکر گزار ہوں۔ کسی نے کبھی بھی ایسی انتشار انگیز اور نقصان دہ عالمی وبا کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ پر مشکلات آئی ہوں گی، اور ہمارے طلباء کی تعلیم میں نئی پیچیدگیاں لائی ہوں گی۔ خصوصاً ان کے لیے جو انگریزی میں روانی بڑھا رہے ہیں۔

میں نے کنڈرگارٹن کا آغاز بغیر انگریزی کا ایک لفظ بولے شروع کیا تھا، لہذا مجھے ذاتی طور پر ان مشکلات کا اندازہ ہے جنکا آپ اور آپ کے بچوں نے معمول کے حالات میں سامنا کیا ہوگا۔ اسی لیے محکمہ تعلیم میں، ہم سب آپ کی گھریلو زبان، گھر کی ثقافت اور روایتوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کو اور آپ کے بچے کو وہ بناتی ہیں جو آپ ہیں۔ ہم آپ کے بچے کے تعلیمی تجربے کو محفوظ، خیر مقدمی اور مددگار بنانے میں پُر عزم ہیں۔ یہ ہمارے اسکول کی عمارتوں کے اندر اور جب ہم آپ کے بچوں کو ریموٹلی تعلیم دے رہے ہیں دونوں پر صادق ہوتا ہے۔

گرمیوں سے خزاں کی جانب، ہم ہمارے معلمین کو انکی مطلوبہ تعلم اور وسائل سے آراستہ کرنے کے لیے پُر عزم ہیں تاکہ یہ بقیہ بنایا جا سکے کہ آپ کے بچے کو گریڈ سطح مواد سیکھنے کے لیے درکار لسانی مدد مل سکے۔ میں آپ کی اپنے استاد سے رابطہ رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اگر آپ نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے تاکہ آپ نشاندہی کر سکیں کہ گرمیوں کے دوران آپ کونسے پروگرام، ذرائع، اور حکمت عملیاں اپنے بچے کے لسانی فروغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی گرمیوں میں تعلیمی عمل میں معاونت ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔

اس کے ساتھ ہی، برائے مہربانی اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان پر بھی کام کریں! اس زبان میں مطالعہ، تحریر اور سوالات پوچھنا جو آپ استعمال کرتے ہیں انکو دونوں زبانوں میں تعلیمی کامیابی کی جانب لے جائے گا۔

ہم خزاں میں اسکولوں کی عمارتوں کو ممکنہ محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے اسکول واپسی سروے کو schools.nyc.gov/returntoschool2020 پر 30 جون تک مکمل کر کے اس طریق کار کی رہنمائی میں ہماری مدد کریں۔

میں آپ کے بچے کو تعلیم دینے میں آپ کی شراکت کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ موسم گرما سے محظوظ ہونگے!

بخوص،



Richard A. Carranza
چانسلر
نیویارک شہر محکمہ تعلیم